

FAIR AT WORK ONTARIO

اونٹاریو میں روزگار کے معیارات

روزگار کے معیارات کا قانون (Employment Standards Act, 2000, ESA) ملازمین کا تحفظ کرتا ہے اور اونٹاریو میں بیشتر جائے کار کے لیے کم سے کم معیارات کا تعین کرتا ہے۔ اپنے حقوق کا استعمال کرنے پر ملازمین کو کسی بھی طرح کی سزا دینا آجروں کے لیے ممنوع ہے۔

آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

روزگار کے دیگر حقوق، استثناء اور خصوصی اصول

ایسے بھی دیگر حقوق، استثناء اور خصوصی اصول موجود ہیں جو اس پوسٹر پر درج نہیں ہیں، جس میں قبل از وقت سبکدوشی کا معاوضہ اور عارضی امدادی ایجنسی کے اسائنمنٹ والے ملازمین کے لیے خصوصی اصول شامل ہیں۔



آپ اور آپ کے جائے کار پر اثر ڈال سکنے والی تازہ ترین خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں:
Ontario.ca/labournews

چھٹی کا وقت اور تنخواہ

بیشتر ملازمین کو 12 مہینے کے کام کے بعد چھٹی کا وقت ملتا ہے۔ کسی ملازم کو چھٹی کی جو تنخواہ ملتی ہے اس کی رقم کے ضمن میں اصول موجود ہیں۔

معطلی کا نوٹس اور تنخواہ

بیشتر معاملوں میں، ملازمت ختم کرتے وقت آجروں کے لیے پیشگی تحریری نوٹس دینا اور/یا نوٹس کے بجائے معطلی کی تنخواہ دینا ضروری ہے۔

غیر حاضری کی چھٹیاں

اونٹاریو میں ملازمت کے تحفظ کے ساتھ کئی چھٹیاں ہیں۔ حمل، ولدیت، کنبہ جاتی نگران، ذاتی پنگامی چھٹی (با معاوضہ اور بلا معاوضہ) اور جنسی اور/یا گھریلو تشدد کی صورت میں چھٹی (با معاوضہ اور بلا معاوضہ) اس کی مثالوں میں شامل ہیں۔

کم از کم اجرت

بیشتر ملازمین کم از کم اجرت ادا کیے جانے کے حقدار ہیں۔ موجودہ شرحوں کے لیے ملاحظہ کریں:

Ontario.ca/minimumwage

کام کے گھنٹے اور اوور ٹائم

کام کے گھنٹوں پر یومیہ اور ہفتہ وار حدود اور کھانے کے وقفوں، آرام کے وقفوں اور اوور ٹائم کے سلسلے میں اصول متعین ہیں۔

سرکاری تعطیلات

اونٹاریو میں ہر سال کئی سرکاری تعطیلات ہیں۔ بیشتر ملازمین ان دنوں میں کام سے چھٹی کرنے اور سرکاری تعطیل کی تنخواہ پانے کے حقدار ہیں۔

اپنے حقوق کے بارے میں یہاں پر مزید جانیں:

Ontario.ca/employmentstandards

1-800-531-5551 or TTY 1-866-567-8893

[@ONlabour](https://twitter.com/ONlabour) [@OntarioMinistryofLabour](https://www.facebook.com/OntarioMinistryofLabour)